



”سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے“

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے، تو آپ نے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے، آپ نے دریافت فرمایا: ”یہ کیا ہے؟“، تو لوگوں نے کہا: روزہ دار ہے آپ نے فرمایا: ”سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے“، مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں: ”اللہ نے جو تمہیں رخصت دی ہے اس پر عمل کرو“
[صحیح] [متفق علیہ]

رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے گرد لوگ جمع تھے اور دھوپ کی شدت اور پیاس کی کثرت کی وجہ سے اس پر سایہ کیا ہوا تھا آپ نے دریافت فرمایا: ”اسے کیا ہوا ہے؟“ لوگوں نے کہا: ”یہ روزہ دار ہے“ آپ نے فرمایا: ”سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ نے جو تمہیں رخصت دی ہے اس پر عمل کرو“

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/4503>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

